

لیتھیم - آئن بیٹری کی حفاظت



بیٹری کی حفاظت کے لیے مشورے



ای بانک پر لیتھیم - آئن بیٹری کی
خرابی کے نتیجے میں آگ لگ
گئی، جس نے اس گھر کو بری
طرح نقصان پہنچایا۔

1. ای بانک، ای سکوٹر گجراج یا شیڈ میں پاور ٹولز کو
صرف رہائشی علاقوں اور باہر نکلنے کے دروازوں
سے دور چارج کریں۔
2. کبھی بھی ایسی بیٹریاں یا سامان استعمال یا چارج نہ
کریں جس میں خرابی کی علامات ظاہر ہوں جیسے
سوجن، رساؤ، رنگت خراب، یا بدبو آ رہی ہو
3. صرف وہ چارجرز استعمال کریں جو متعلقہ معیارات
کے مطابق ہوں اور جو آپ کی بیٹری یا ڈیوائس کے
ساتھ فراہم کیے گئے ہوں یا اس کے ساتھ ہم آہنگ
سمجھے جاتے ہوں۔
4. آلات کو کبھی بھی لمبے عرصے تک چارج پر نہ
چھوڑیں (مثلاً رات بھر) یا بغیر توجہ کے
5. چارج ہونے کے بعد بند کر دیں۔
6. اپنے تکیے یا بستر پر فون چارج نہ کریں، صرف
سخت سطحوں پر ڈیوائسز کو چارج کریں۔
7. معروف برانڈز اور سپلائرز سے مصنوعات خریدیں
اور سیکنڈ ہینڈ بیٹریاں استعمال کرنے سے گریز کریں۔

مزید معلومات

fire.nsw.gov.au پر جائیں یا اپنے مقامی فائر اسٹیشن سے رابطہ کریں۔

@FRNSW @FireAndRescueNSW FireAndRescueNSW FRNSW



Hazards Near Me



Emergency+

سیفٹی ایپس
ڈاؤن لوڈ کریں۔
موبائل ڈیوائسز کے
لیے ایپ اسٹورز پر
دستیاب ہیں۔



ہم ہیں تیار ہر بات لیے،

کیا آپ بھی ہو؟

آگ تیزی سے پھیل سکتی ہے اور تباہ کن، یہاں تک
کہ مہلک بھی ہو سکتی ہے۔ 3 منٹ سے کم وقت
میں، آپ کے گھر میں پھیلنے والا زہریلا دھواں اور
شعلے آپ کو اور آپ کے پیاروں کو سنگین خطرے
میں ڈال دیں گے۔

! اپنے آپ سے پوچھیں

کیا آپ تیار ہیں؟

کیا آپ کے پاس درست کام کرنیوالا سموک الارم ہے؟
کیا آپ جانتے ہیں کہ جب یہ آواز نکالتا ہے تو کیا
کرنا ہے؟



گار آپوک دھونیں کے
لارم کی آواز آتی ہے یا
پا کو آگ نظر آتی ہے:


آگ سے بچاؤ گھر پر



دھونیں کے الارم - ہم کیا تجویز کرتے ہیں



مثال نکلنے کا منصوبہ



* گھر میں آگ سے بچنے
کا اپنا منصوبہ بنائیں

دیگر آسان مشورے

1. کھانا پکاتے وقت دیکھتے رہیں
2. تمام آتش گیر اشیاء کو بیٹر / چمنی سے ایک میٹر کے فاصلے پر رکھیں
3. باہر کھانا پکانے کے سامان کا اندر استعمال نہ کریں
4. اپنے ڈرائر میں لنٹ فلٹر کو استعمال کرنے سے پہلے اسے صاف کریں
5. موم بتیوں کو پردوں سے دور رکھیں اور کبھی بھی ان سے توجہ نہ بٹائیں
6. پاور بورڈز یا پاور پوائنٹس کو اوورلوڈ نہ کریں
7. یقینی بنائیں کہ آپ کے بوا دان اور چمنی کو باقاعدگی سے صاف کیا جاتا ہے
8. تمباکو نوشی نہ کریں یا بستر پر گندمی بوریوں کا استعمال نہ کریں
9. اگر آپ کے کپڑوں میں آگ لگ جاتی ہے تو - رک جائیں، زمین پر لیٹیں، ڈھانپیں اور لڑھکیں۔

آپ کے گھر میں ایک درست حالت میں دھونیں کا، الارم لگائے بغیر آپ اور آپ کا خاندان آج رات سو سکتے ہیں اور دوبارہ کبھی نہیں جاگ سکتے۔ اس کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے اور نہ ہی یہ حد سے زیادہ سنسنی خیزی ہے، یہ ایک ایسی سچائی ہے جو کسی ایسے شخص کی طرف سے آرہی ہے جس نے گھروں میں لگنے والی آگ کو اچھی طرح سے دونوں اطراف میں جاتے دیکھا ہے۔
کیپٹن Keven Verhoeven،
Oberon فائر اسٹیشن

سموک الارم کے بارے میں مشورے

1. تمام رہائشی علاقوں، دالانوں اور سونے کے کمروں میں کم از کم ایک سموک الارم رکھیں
2. آپس میں جڑے ہوئے دھونیں کے الارم اگر ایک الارم چالو ہوتا ہے، تو تمام - دھونیں کے الارم بجتے ہیں
3. اپنے دھونیں کے الارم کو مہینے میں ایک بار ٹیسٹ بٹن کو دبا کر اور پکڑ کر اس وقت تک جانچیں جب تک کہ وہ آواز نہ نکالے
4. ہر 6 ماہ بعد اپنے دھونیں کے الارم سے دھول کو ویکيوم کریں
5. بیٹری کو ہر سال تبدیل کریں (اگر یہ الکلائن ہے)
6. ہر 10 سال بعد پورے الارم کو تبدیل کریں۔

کیا آپ کے پاس ایک درست طور کام کرنے والا دھونیں کا الارم ہے؟

صرف درست طور کام کرنے والے دھونیں کے الارم ہی زندگیاں بچاتے ہیں، ہمارے فائر فائٹرز آپ کے گھر جا سکتے ہیں، آپ کے الارم کی جانچ کر سکتے ہیں اور آگ سے حفاظت کے لیے مشورہ دے سکتے ہیں۔



مفت سیفٹی وزٹ بک کرنے
کے لیے اپنے مقامی فائر
اسٹیشن سے رابطہ کریں یا
یہاں fire.nsw.gov.au/visits
پر رجسٹر ہوں

جائیداد مالکان اور ایجنٹوں کے لیے نوٹ

NSW میں جائیداد مالکان اور ایجنٹوں کو ہر سال کرائے کی جائیدادوں میں دھونیں کے الارم کو چیک کرنا چاہیے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ وہ مقابل استعمال حالت میں ہیں۔ اگر کوئی الارم کام نہیں کر رہا ہے، تو اسے دو کاروباری دنوں کے اندر لازماً ٹھیک کر لینا چاہیے مزید معلومات fairtrading.nsw.gov.au

1. باہر نکلنے کے لیے اپنے گھر میں آگ سے بچنے کے *منصوبہ کا استعمال کریں
2. نیچے اتر جاؤ اور جاؤ، جاؤ
3. اگر ہو سکے تو اپنے پیچھے دروازے بند کر دیں
4. ملنے کی جگہ پر جائیں
5. 000 پر کال کریں اور آگ کا پوچھیں
6. باہر رہیں
- گھر میں دوبارہ داخل نہ ہوں
7. فائر فائٹرز کے آنے کا انتظار کریں۔

آگ سے بچنے کا منصوبہ

1. اپنا پتہ معلوم ہونا چاہیے
2. کمرے سے نکلنے کے لیے دو راستے رکھنے کی کوشش کریں
3. اخراج کے راستوں کو صاف رکھیں
4. دروازے اور کھڑکی کی چابیوں تالے میں رکھیں تاکہ انہیں آسانی سے کھولا جا سکے
5. اپنی ملاقات کی جگہ کو جانیں - اپنے گھر کے سامنے جہاں فائر فائٹرز آپ کو دیکھ سکتے ہوں۔
6. اپنے گھر کے ہر فرد کے ساتھ اکثر اپنے بچاؤ کے منصوبے پر عمل کریں۔